

## Amazigh Ramdane At Mansour

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِّمَ مِثْلُ حَظِّ الْأَئْتَيْنِ جَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ صَلَوةٌ لِلْأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا  
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ جَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَلَامِمَهُ الشَّلْثُ  
فِلَامِمَهُ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ قَلَوةٌ أَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

£ef tarwa nnwen, Iweûua kwen Öebbi: i uqcic amur n snat tullas. Ma

llant sennig snat n tullas, nnsent amur wis kué n lweôt. Ma yiwit i illan,

ines uzgen. I imawlan is, i yal wa, amur wis sdis n wayen id iooa, ma

isâa mmi s. Ma ur isâa ara mmi s, u weôten t imawlan is, amur wis kué i

immas. Ma isâa atmaten, i immas amur wis sdis, kkes ed ayen

ippuseôfen ne\$ îlabat. Imawlan nnwen, arrow nnwen, ur teéôim ara

menyif iten, akken i kwen nefâan. D aêeppem n Öebbi. Öebbi, s tidep,

Izga d Bab n ūwab, d Amusnaw.